پری فزیبلیٹی تحقیق

(بیکری اور کنفیکشنری)

SMEDA

سمال اینڈ میڈیم انٹر پرائز ز ڈویلپمنٹ اتھارٹی

وزارت صنعت و پیداوار

حکومت پاکستان

www.smeda.org.pk

ہیڈ آفس

فورتھ فلور، بلڈنگ نمبر 3، ایوانِ اقبال، ایجرٹن روڈ، لاہور۔
فون 92 42 111 111 456
فیکس 92 42 36304926-7
helpdesk@smeda.org.pk

ریجنل آفس پنجاب
بلڈنگ نمبر 3، فلور:3، ایوان اقبال، ایجرٹن روڈ، لاہور
ٹیلی فون:(042) 111-111-456
فیکس نمبر:(0423)6304926-7
helpdesk.punjab@smeda.org.pk

ریجنل آفس سندھ
بحریہ کمپلیکس 2، فلور 5، ایم ٹی خان روڈ، کراچی
ٹیلی فون:(021) 111-111-456
فیکس نمبر:(021) 5610572
helpdesk-khi@smeda.org.pk

ریجنل آفس خیبر پختونخواہ
دی مال، گراؤنڈ فلور، پشاور
ٹیلی فون:(091) 9213046-47
فیکس نمبر:(091) 286908
helpdesk-pew@smeda.org.pk

ریجنل آفس بلوچستان
بنگلو نمبر:15-A چمن ہاؤس سکیم، ایئرپورٹ روڈ، کوئٹہ
ٹیلی فون:(081) 831623, 831702
فیکس نمبر:(081) 2831922
helpdesk-qta@smeda.org.pk

نوٹ: سمیڈا کی جانب سے وزیر اعظم یوتھ بزنس لون سے متعلقہ تمام سہولیات اور معلومات مفت فراہم کی جا رہی ہیں

نمبر شمار	فہرست عنوانات	صفحہ نمبر
1.	اظہار لاتعلقی	2
2.	دستاویز کا مقصد	2
3.	سمیڈا کا تعارف	2
4.	سکیم کا تعارف	2
5.	اجمالی جائزہ	3
6.	کاروبار و مصنوعات کا مختصر بیان	3
7.	انتہائی قابل توجہ امور	3
8.	ابتدائی و عملی استعداد	4
9.	متوقع منڈیاں اور تجارتی علاقے	4
10.	منصوبے کی لاگت کار کا خلاصہ	4
10.1	معاشی کیفیت	4
10.2	درکار سرمایہ	5
10.3	کل لاگت کاروبار	5
10.4	درکار زمین	6
10.5	درکار مشینری اور آلات	6
10.6	فرنیچر فیکسچر اور دیگر آلات	7
10.7	درکار خام مال	7
10.8	درکار افرادی قوت	8
10.9	آمدن۔متوقع پیداوار اور آمدن کا جدول	8
10.10	مصرفات اور متفرق لاگتیں	9
11.	ماہرین و مشیران	9
12.	ضمیمہ جات	10
12.1	آمدن کا گوشوارہ (انکم سٹیٹمنٹ)	10
12.2	گردش نقد کا گوشوارہ (کیش فلو)	11
12.3	اثاثوں اور واجبات کا گوشوارہ (بیلنس شیٹ)	12
12.4	سودمند انتظامی تجاویز	13
12.5	کارآمد روابط	14
13	کلیدی مفروضے	14
13.1	خام مال کے مفروضے	14
13.2	فروخت سے متعلق مفروضے	19

نوٹ: سمیڈا کی جانب سے پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون سے متعلقہ تمام سہولیات اور معلومات مفت فراہم کی جا رہی ہیں

1۔اظہارِلاتعلقی(Disclaimer)

یہ معلوماتی دستاویز موضوع سے متعارف کرواتی اور اس بارے میں عمومی تصور اور معلومات دیتی ہے۔اگر چہ،اس دستاویز میں شامل مواد مختلف باوثوق ذرائع سے جمع کردہ ڈیٹا/معلومات پر مبنی ہے،مگر اس کی بنیا دمخصوص مفروضات پر بھی ہے جو مختلف صورتوں میں مختلف ہو سکتے ہیں۔معلومات کی درستگی یا معتبریت کے بارے میں کوئی دعوے یا یقین دہانیوں کے بغیر من وعن پیش کیا گیا ہے۔اگر چہ اس دستاویز کی تدوین میں حد درجہ احتیاط اور توجہ برتی گئی ہے،لیکن اس میں دی گئی معلومات متعلقہ عوامل میں کسی تبدیلی کی وجہ سے مختلف ہو سکتی ہیں،اور اصل نتائج پیش کردہ معلومات سے خاصے مختلف ہو سکتے ہیں۔سمیڈا (SMEDA)،اس کے ملازمین اور ایجنٹ اس دستاویز کی وجہ سے کی گئی کسی سرگرمی کے نتیجے میں ہونے والے کسی بھی مالی یا دیگر نقصان کے ذمہ دار نہیں۔شامل معلومات مزید کسی پروفیشنل مشاورت کو خارج از امکان نہیں بناتی۔اس دستاویز کے متوقع استعمال کنندگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اضافی کاوش کریں اور ایک باوثوق فیصلہ کرنے کے لیے ضروری معلومات اکٹھی کریں،بشمول معلومات پر عمل کرنے کے کسی بھی فیصلے سے قبل کسی کنسلٹنٹ/تکنیکی ماہر کے ساتھ پروفیشنل مشاورت۔

سمیڈا کی جانب سے پیش کردہ خدمات کے متعلق مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائیٹ پر رابطہ کریں:www.smeda.org.pk

2۔دستاویز کا مقصد (Purpose of the Doucument)

ابتدائی امکانات جانچنے کی اس سٹڈی (Pre Feasibility Study) کا بنیادی مقصد ممکنہ کاروباری افراد کو سرمایہ کاری کے لیے منصوبہ کی شناخت میں معاونت دینا ہے۔منصوبہ کی ابتدائی جانچ سرمایہ کاری کے اہم فیصلوں کی بنیاد مہیا کر سکتی ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خاطر یہ دستاویز/سٹڈی منصوبہ کا بنیادی تصور وضع کرنے،آغاز اور پروڈکشن،منڈی کی رسائی اور فراہمی،سرمایہ اور کاروبار چلانے کے انتظامات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔

اس دستاویز کا مقصد ممکنہ سرمایہ کاروں کو بیکری اور کنفکشنری کے کاروبار میں سرمایہ لگانے کے لیے کاروبار کی عمومی تفہیم مہیا کرنا ہے تاکہ انہیں سرمایہ کاری کے اہم فیصلوں میں مدد ملے۔دستاویزی معلومات سے محروم یا بہت کم دستاویزی معلومات والے شعبوں کے لیے ابتدائی جائزہ رپورٹیں تیار کرنے کی ضرورت اس لیے بھی زیادہ نمایاں ہوگئی ہے کیونکہ اس قسم کی رپورٹوں سے پہلے کی ریسرچ مخصوص ٹوٹکے،آزمائش اور خطا کے ذریعے موجودہ کاروباروں کے وضع کردہ بہترین طور طریقے اور مخصوص صنعتی طریقے آشکار کرتی ہیں جو کاروبار قائم کرنے اور کامیاب طریقے سے چلانے کے مختلف پہلوؤں میں راہنما بن گئے۔

پوری دستاویز کا بغور کرنے کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ آگے دیئے گئے اہم پہلوؤں کا خیال رکھیں جو سرمایہ کاری کے کسی بھی فیصلے کی بنیاد ہیں۔

3۔سمیڈا کا تعارف(Introduction to SMEDA)

سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈویلپمنٹ اتھارٹی (سمیڈا) حکومت پاکستان نے 1998ء میں قائم کیا تاکہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری شعبے ایس ایم ای(SME) کو ترقی دینے کے ذریعے معیشت میں نئی جان ڈالی جاسکے۔

ایس ایم ای(SME) کو ترقی دینے ذریعے روزگار پیدا کرنے اور قومی آمدنی میں بڑھوتری میں معاونت'' کے جذبے کے ساتھ،ایس ایم ایز(SMEs) کی تعداد،دائرۂ عمل اور مقابلہ بازی کو فروغ دینے کے لئے سمیڈا نے مخصوص شعبوں کی ریسرچ انجام دی ہے تاکہ پالیسی،فنانس تک رسائی،کاروبار کے فروغ کی خدمات،اہم اقدامات اور ادارے کی سطح پر اشتراکِ عمل اور نیٹ ورکنگ کے اقدامات کو شناخت کیا جاسکے۔

سرمایہ کاری کے کلیدی شعبوں میں ابتدائی تحقیقی جائزوں کی تیاری اور تشہیر سمیڈا کی جانب سے ایس ایم ای(SME) معاونت کا نشانِ امتیاز رہا ہے۔

ان ابتدائی تحقیقی جائزوں کے ساتھ ساتھ سمیڈا نے ایس ایم ایز(SMEs) کو وسیع پیمانے پر فروغِ کاروبار کی خدمات بھی پیش کی ہیں۔ان خدمات میں ہیلپ ڈیسک سروسز کے ذریعے کاروباری راہنمائی کے علاوہ ماہرین اور کنسلٹنٹس کی نشاندہی اور ضروریات کی بنیاد پر تعمیرِ استعداد کے مختلف النوع پروگرام بھی شامل ہیں۔

4۔سکیم کا تعارف(Introduction to Scheme)

وزیرِاعظم کی جانب سے نوجوانوں کے لئے قرضہ سکیم کا اجراء نوجوان کاروباری افراد کے لئے پانچ ارب روپے کی لاگت سے وزیرِاعظم کی جانب سے شروع کی گئی ''چھوٹے کاروباری قرضوں کی سکیم'' (PM Youth Bussiness Loan) برائے سال 14-2013ء کا مقصد نامزد کردہ مالیاتی اداروں کے ذریعے رواں سال میں ایک لاکھ افراد کو 8 فیصد مارک اپ پر قرضہ مہیا کرنا ہے اور ابتدائی طور پر کام نیشنل بینک آف پاکستان اور فرسٹ وویمن بینک لمیٹڈ کے ذریعے انجام دیا جائے گا۔

نوٹ: سمیڈا کی جانب سے پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون سے متعلقہ تمام سہولیات اور معلومات مفت فراہم کی جارہی ہیں

آٹھ سال تک کی معیاد کے لئے اور 10:90 تناسب کا قرضہ (Debt) اور ذاتی سرمایہ (Equity) کے ساتھ چھوٹے کاروباری قرضے پاکستان بھر میں SME مالکان کو دیئے جائیں گے جس میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر اور فاٹا کو متناسب نمائندگی دی جائے گی۔
روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور قومی آمدنی میں اضافے کے لئے چلنے والی اس سکیم کا مقصد چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری شعبے کی ترقی کو یقینی بنانا ہے۔
سکیم کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری شعبے میں وسعت اور مقابلے کے رجحان کے لئے حکومت ہر ممکن معاونت فراہم کر رہی ہے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو ترقی دینے کے ادارے SMEDA نے وزیر اعظم کی ہدایت پر پچاس سے زائد شعبوں کی نشاندہی کی ہے۔
تاہم سکیم کا دائرہ کار صرف انہی پچاس قسم کے کاروبار تک محدود نہیں ہے۔ کاروباری افراد کسی بھی بہتر منصوبے کی نشاندھی کر سکتے ہیں۔ SMEDA کاروبار کی منصوبہ بندی کیلئے ہر طرح کی تکنیکی رہنمائی فراہم کر رہا ہے اور اس سلسلے میں ادارے کی ویب سائٹ www.smeda.org.pk سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔

5۔اجمالی جائزہ (Executive Summary)

شہری اور نیم شہری علاقوں میں بیکری اور کنفیکشنری کی اشیاء کا کاروبار بڑھ رہا ہے۔ اس پری فیزیبلٹی رپورٹ میں درمیانی آمدنی والے علاقوں میں بیکری کے کاروبار کا ذکر کیا گیا ہے۔

کیک، چپس، مٹھائی، نمکو، بسکٹ، ڈبل روٹی بیکری اور کنفکشنری کی اہم مصنوعات ہیں جو کہ متعلقہ علاقوں کے مخصوص خریداروں کو فروخت کی جاتی ہیں۔ دوکان کے ساتھ ہی مصنوعات کی تیاری کے انتظامات کا ہونا کاروبار کے لیے بہتر ہے۔ ملی جلی مصنوعات کا انتخاب، کاروبار کی مناسب جگہ اور اس کے ساتھ مارکیٹنگ کی کوششیں کاروبار کی کامیابی کیلئے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ بیکری اور کنفیکشنری کا کاروبار 2.04 ملین روپے کی لاگت سے شروع ہوگا۔ یہ منصوبہ 90 فیصد قرض اور 10 فیصد ذاتی سرمایہ درکار ہوگا۔ یہ کاروبار 06 افراد کو روزگار کے مواقع فراہم کرے گا جس میں مالک بھی شامل ہوگا۔ منصوبہ کیلئے 8.3 ملین روپے موجودہ قدر حاصل (NPV)، 51 فیصد اندرونی شرح منافع (IRR) اور 2.76 سال کل لاگت کی مدت واپسی لگایا گیا ہے۔ اس کاروبار کی کامیابی کیلئے بیکری کے ماہر کاریگر اور حفظان صحت کے اصولوں کی پاسداری انتہائی اہم ہیں۔

6۔کاروبار و مصنوعات کا مختصر بیان (Brief Description of Project and Product)

تجویز کردہ بیکری اور کنفیکشنری کا کاروبار دوکان بمعہ پروڈکشن ایریا پر مشتمل چھوٹے پیمانے کا کاروبار ہے۔ جس کو بنیادی مشینری و سازوسامان سے آراستہ کیا جائے گا۔ مصنوعات کی تیاری کیلئے کورڈ (Covered) ایریا 2700 مربع فٹ اور دکان کے لیے 900 مربع فٹ جگہ درکار ہوگی۔ دوکان ایک دن میں 16 گھنٹے کے حساب سے پورا سال کھلتی رہے گی۔ ملی جلی اشیا میں کیک، چپس، مٹھائی، نمکو، بسکٹ، ڈبل روٹی اور دیگر کنفیکشنری کی اشیاء شامل ہیں۔ ان اشیاء کو عام خریداروں کی ضرورت اور متوقع سیل کے حساب سے تیار کیا جاتا ہے۔

کل سیل کے محاصل میں سے 70 فیصد بیکری کی مصنوعات اور 30 فیصد کو کنفیکشنری کی مصنوعات سے حاصل ہونگے۔ عید کے تہوار اور موسم سرما میں سیل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے سال 11.24 ملین روپے کے محاصل کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ پیداوار میں 5% سالانہ اضافہ کے ساتھ قیمت فروخت میں 10% اضافہ ہوگا۔

7۔انتہائی قابل توجہ امور (Critical Factors)

☆ بیکری کے کاروبار کا گزشتہ علم اور تجربہ

☆ مصنوعات کی پیداوار کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت اور ماہر کاریگر۔

☆ کوالٹی اور صفائی کے معیار کو برقرار رکھنا اور حفظان صحت کے مروجہ اصولوں کی نمایاں طریقہ سے عملداری۔

☆ مصنوعات کی قیمتوں کی منصوبہ بندی اور خریداروں کی طلب کو سمجھنا۔

☆ دکان اور اشیاء کی آرائش وزیبائش کے علاوہ سامان خورد ونوش کیلئے بہترین ٹھنڈک کا رکھنا۔

☆ خریدار کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے دوکان کیلئے مناسب جگہ کا انتظام

8۔ابتدائی وعملی استعداد(Installed and Operational Capacities)

جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ کاروبار کے محاصل کا 70% بیکری کی اشیاء سے حاصل کیا جاتا ہے۔بیکری کی پیداواری استعداد کا انحصار پیدا کی گئی مختلف انواع کی مصنوعات پر ہوتا ہے۔بیکری کی استعداد کار کے مطابق اشیاء کی پیداوار میں زیادہ تر 23,758 پاونڈ کیک، 40,470 چپس کے پیکٹ، 11,812 پاؤنڈ مٹھائی اور نمکو اور 11,800 پاؤنڈ ملے جلے بسکٹ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔

9۔متوقع منڈیا اور تجارتی علاقے(Potential Target Market)

چھوٹے شہروں کے ایسے علاقے جہاں پر متوسط آمدنی والے لوگ پائے جاتے ہیں اس کاروبار کے لیے بہترین چناؤ ہے۔مصنوعات کی تیاری کے لئے جگہ کا دکان کے آس پاس ہونا ضروری ہے۔تاہم آس پاس کرایہ کے ریٹ زیادہ ہونے کی صورت میں سستے علاقے کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔اس صورت میں ذرائع آمدورفت کے بھاری اخراجات کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے۔

چھوٹے شہر جیسے سرگودھا، شیخوپورہ، گجرات، سکھر، حیدرآباد، نوشہرہ، چارسدہ، خضدار، گلگت جہاں متوسط آمدنی والے لوگ رہ رہے ہوں اس کاروبار کے لئے بہتر ہیں۔

10۔منصوبہ کی کل لاگت کار کا خلاصہ(Project Cost Summary)

وزیراعظم کی قرضہ سکیم کے ضمن میں بیکری وکنفکشنری کے کاروبار کے تجارتی طور پر قابل عمل ہونے کو پرکھنے کیلئے ایک تفصیلی فنانسنگ ماڈل تیار کیا گیا ہے۔

لاگت اور وصولی سے متعلقہ مختلف مفروضات ذیل میں دیئے گئے ہیں۔مفروضات کی بنیاد پر تیار کردہ آمدن کا گوشوارہ (انکم سٹیمنٹ)، گردش نقد کا گوشورہ (کیش فلو سٹیمنٹ) اور اثاثوں اور واجبات کا گوشورہ (بیلنس شیٹ) منسلک ہیں۔

10.1۔معاشی کیفیت(Project Economics)

اس مالیاتی ماڈل میں اعداد وشمار کا حساب پہلے سال میں اندازاً 11.24 ملین کی سیل پر کیا گیا ہے۔اس صلاحیت کے استعمال کو پہلے سال میں 70% سے شروع کر کے ہر سال 5% اضافے کے ساتھ مجموعی طور پر 95% تک کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔

درج ذیل جدول قرضہ کی واپسی کی شرح اور دورانیہ کو ظاہر کرتا ہے

جدول نمبر 1: معاشی کیفیت

مندرجات	تفصیلات
اندرونی شرح منافع (IRR)	51 فیصد
کل لاگت کی مدت واپسی (سال)	2.76
موجودہ قدر حاصل (NPV) (روپے)	8,378,950

منصوبہ میں آمدنی کا انحصار فروخت کردہ چیزوں کے منافع پر ہوگا۔منافع کا زیادہ انحصار خام مال کی لاگت پر ہے۔بیکری کے کاروبار میں چیزوں کا ضیاع زیادہ ہے، اس لئے اشیا

کے ضیاع کو طلب و رسد کے تجزیہ کے ذریعے کم کر کے منافع کو بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے لئے مستند سپلائی چین (Supply Chain) مینجمنٹ ہونا ضروری ہے، اس منصوبہ کی کامیابی کے لئے ایک اور اہم عنصر افضا نے صحت کے اصولوں کو قائم رکھنا اور صاف ستھرا ماحول دینا تا کہ گاہکوں کی شکایات نہ آئیں۔

10.2۔ درکار سرمایہ (Project Financing)

درکار کردہ اور ذاتی سرمائے کی تفصیل ذیل میں دی گئی ہے۔

جدول نمبر 2: درکار سرمایہ

مندرجات	تفصیلات
کل ذاتی سرمایہ (10 فیصد)	200,144 روپے
بینک کا قرضہ (90 فیصد)	1,837,298 روپے
مارک اپ (فیصد/ سالانہ)	8
قرضہ کا مدت (سال)	8
رعائتی مدت (سال)	1

10.3۔ کل لاگت کاروبار (Project Cost)

تجویز کردہ کاروبار کو چلانے کیلئے مندرجہ ذیل مستقل اور گردشی سرمایہ دیا گیا۔

جدول نمبر 3: کل لاگت کاروبار

مندرجات	رقم (روپے)
مستقل لاگت	
پلانٹ اور مشینری	1,124,750
فرنیچر، فِکسچر اور دفتری آلات	270,000
گاڑیاں	45,000
قبل از وقت عمل لاگت	120,000
کل مستقل لاگت	1,559,750
گردشی سرمایہ	
خام مال کی انوینٹری	106,692
پیشگی کرایہ	225,000
نقد	150,000
کل گردشی سرمایہ	481,692
منصوبہ کی کل لاگت	2,041,442

بلڈنگ اور دکان کا پیشگی کرایہ (75,000 روپے ماہانہ برائے 1 کنال) تین مہینے کے کرایہ میں سکیورٹی اور ایک مہینے کا پیشگی کرایہ شامل ہے۔

نوٹ: سمیڈا کی جانب سے پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون سے متعلقہ تمام سہولیات اور معلومات مفت فراہم کی جارہی ہیں

10.4۔درکار زمین(Space Requirement)

بیکری اور مٹھائی کے تجویز کردہ کاروبار عومی طور پر پیداواری ہال،سٹور،اور دوکان پر مشتمل ہوتا ہے۔

اس مقصد کے لیے 3,600 مربع فٹ (جس میں 2,700 مربع فٹ جگہ پیداوار کے لیےاور 900 مربع فٹ دوکان کے لیے شامل ہے)۔تجویز کی گئی ہے جو کہ بڑے شہروں میں قرب وجوار کی نئی ہاوسنگ سوسائٹیز میں کرائے کی بنیاد پر لی جائی گی۔

پیداواری جگہ اور بیکری کی دوکان الگ الگ مقام پر بنائے جاسکتے ہیں تاہم اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ دوکان میں پیداواری مصنوعات کی آسان فراہمی کے لیے دونوں سہولتیں کا فاصلہ ایک دوسرے سے زیادہ نہ ہو۔

جدول نمبر 4: درکار زمین

مندرجات	اندازاًرقبہ (مربع فٹ)	ماہانہ کرایہ (روپے)
پیداوار کے لئے جگہ	2,700	30,000
دکان کیلئے جگہ	900	45,000

10.5۔مشینری اور آلات(Machinery and Equipment Requirements)

تجویز کردہ منصوبے کے لیے پلانٹ،مشینری اور آلات کی تفصیل نیچے دی گئی ہے۔

جدول نمبر 5: پلانٹ،مشینری اور آلات کی فہرست

مندرجات	تعداد	لاگت فی کس (روپے)	کل لاگت
فلور سفٹر	1	125,000	125,000
مکسر (60 کلوگرام یا 40 لیٹر گنجائش)	1	250,000	250,000
کراس شیٹر	1	200,000	200,000
اوون (8X8 فٹ)	1	350,000	350,000
سانچے	30	75	2,250
ڈیپ فریزر	1	50,000	50,000
فرائیر اور برنر	2	15,000	30,000
سیلنگ مشین	1	1,500	1,500
موونگ ٹرالیز	2	10,000	20,000
ٹرے	30	200	6,000
یو پی ایس اور بیٹریاں	2	20,000	40,000
متفرق ٹولز اور آلات (پانز،چھریاں وغیرہ)	1	50,000	50,000
کل			1,124,750

مطلوبہ مشینری،مقامی مارکیٹ میں آسانی سے میسر ہے۔استعمال شدہ اور نئی مشینری لاہور اور گوجرانوالہ کی مختلف مارکیٹوں سے خریدی جاسکتی ہے۔

یہ تخمینہ جات تجویز کردہ پیداواری منصوبے کی بنیاد پر کیے گئے ہیں جسکا کہیں اور تذکرہ کیا گیا ہے۔

10.6۔فرنیچر،فیکسچر اوردیگرآلات(Furniture, Fixture and other Equipments)

متذکرہ بالا پلانٹ،مشینری اورآلات کے علاوہ تجویز کردہ منصوبے کے لئے مندرجہ ذیل ضروری اشیادرکار ہونگی۔

جدول نمبر6:فرنیچر،فیکسچر اوردیگرآلات

مندرجات	تعداد	فی کس لاگت(روپے)	کل لاگت(روپے)
پروڈکشن میز	2	5,000	10,000
کرسیاں اوردیگرفرنیچر		10,000	10,000
تذین وآرائش کی لاگت		125,000	125,000
ائیرکنڈیشنر	1	45,000	45,000
ورٹیکل فریز	1	30,000	30,000
ترازو(برائے کیش کاؤنٹراور پروڈکشن)	1	5,000	5,000
مائیکروویواوون	1	10,000	10,000
سائن بورڈ	1	10,000	10,000
متفرقات	1	25,000	25,000
کل			270,000

10.7۔درکارخام مال(Raw Material Requirements)

مختلف اقسام کی بیکری اورمٹھائی کی مصنوعات کی پیداوار کے لیےمختلف خام مال کی ضرورت پڑتی ہے۔خام مال کی مکمل تفصیلات مختلف مصنوعات کی ترکیب کے ساتھ ضمیمہ جات 12.1 کےطور پر منسلک کی گئی ہیں

10.8۔درکار افرادی قوت(Human Resoce Requirement)

جدول نمبر7: درکار افرادی قوت

مندرجات	ملازمین کی تعداد	ماہانہ تنخواہ(فی کس)
مالک منیجر	1	25,000
ماسٹر شیف	1	20,000
سیلز مین	2	10,000
ہیلپر	2	10,000
کل ملازمین	6	

کاروبار کی کامیابی کیلئے ضروری ہے کہ مالک تمام امور کی ذاتی طور پر نگرانی کرے اس کے علاوہ افرادی قوت کاروبار کے مقرر کردہ امور مالک کی زیرنگرانی چلائے گی۔شیف اور سیل وکرر کے لئے مناسب تجربہ ضروری ہے۔

10.9۔آمدن۔متوقع پیداوار اور آمدن کا جدول(Revenue Generation)

مندرجہ ذیل جدول ایک سال کی آمدنی ظاہر کرتا ہے۔

جدول نمبر8: آمدن(ایک سال)

ملی جلی مصنوعات	فروخت کی شرح	ایک سال کی آمدنی
بیکری اشیا کی فروخت	70فیصد	8,645,315
جنرل آئٹمز کی فروخت	30فیصد	2,593,595
کل فروخت		11,238,910

مندرجہ بالا آمدن ذیل میں دیئے گئے آپریشنل مفروضات کے زیر اثر ہوتی ہے۔

جدول نمبر9: آپریشنل مفروضات

کام کا دورانیہ(ماہ)	355
کام دورانیہ(گھنٹے/ دن)	16
ایک دن میں شفٹ کی تعداد	2

10.10۔مصرفات اور دیگر اخراجات(Utilities and Other Costs)

ایک ضروری خرچہ جو کمپنی کو برداشت کرنا پڑے گا وہ بجلی اور گیس کی لاگت ہے۔بجلی کا تقریباً 50,000روپے فی ماہانہ جبکہ گیس کا خرچہ تقریباً 45,000روپے ہے۔قدرتی گیس(قدرتی گیس اور ایل پی جی) کے تھوڑے پریشر یا موجود نہ ہونے کی صورت میں دوسرے ایندھن کے ذرائع کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے جیسا کہ LPG،لکڑی اور مٹی کا تیل شامل ہے۔خام مال کی تین دن قبل خریداری اور تیار شدہ اشیاء کا دو دن کا سٹاک بھی ہونا چاہیے تاکہ اشیاء کی بلاتعطل ترسیل اور فروخت ممکن ہو سکے۔

11۔ماہرین ومشیران(Contact Details of Experts & Consultants)

پروفیسر ڈاکٹر سلیم الرحمانؒ
نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد
فون:041-9200161-70/3011
موبائل:0300-6681047
پرنسپل سائنٹیفک آفیسر
فوڈ اینڈ بائیوٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر
PCSIR Labs
فیروز پور روڈ لاہور۔
فون:042-99230688-95

12۔ضمیمہ جات(Annexures)

12.1۔آمدن کا گوشوارہ(Income Statement)

Income Statement

		Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10
Revenue		11,238,910	13,419,982	15,747,024	18,405,275	21,437,705	24,892,570	27,401,857	30,142,043	33,156,247	36,471,872
Cost of sales											
Cost of goods sold 1	68%	7,681,843	9,172,615	10,763,159	12,580,085	14,652,764	17,014,179	18,729,288	20,602,216	22,662,438	24,928,682
Operation costs 1 (direct labor)	2%	236,667	263,123	288,758	316,888	347,756	381,630	419,092	459,895	504,671	553,807
Operating costs 3 (direct electricity)	2%	240,000	264,000	290,400	319,440	351,384	386,522	425,175	467,692	514,461	565,907
Operating costs 4 (direct water)		20,708	24,727	29,015	33,913	39,500	45,866	50,489	55,538	61,092	67,202
Operating costs 5 (direct gas)		345,139	412,118	483,580	565,213	658,337	764,433	841,491	925,641	1,018,205	1,120,025
Total cost of sales	76%	8,524,357	10,136,583	11,854,911	13,815,538	16,049,741	18,592,630	20,465,535	22,510,983	24,760,868	27,235,623
Gross Profit		2,714,552	3,283,398	3,892,113	4,589,737	5,387,964	6,299,940	6,936,322	7,631,060	8,395,379	9,236,249
General administration & selling expenses											
Administration expense	7%	780,000	855,942	939,278	1,030,727	1,131,080	1,241,204	1,362,049	1,494,660	1,640,182	1,799,873
Administration benefits expense	1%	78,000	85,594	93,928	103,073	113,108	124,120	136,205	149,466	164,018	179,987
Building rental expense	8%	900,000	990,000	1,089,000	1,197,900	1,317,690	1,449,459	1,594,405	1,753,845	1,929,230	2,122,153
Electricity expense Outlet	3%	360,000	396,000	435,600	479,160	527,076	579,784	637,762	701,538	771,692	848,861
Travelling expense	1%	56,195	67,100	78,735	92,026	107,189	124,463	137,009	150,710	165,781	182,359
Communications expense (phone, fax, mail, internet, etc.)	0.14%	15,600	17,119	18,786	20,615	22,622	24,824	27,241	29,893	32,804	35,997
Office expenses (stationary, entertainment, janitorial services,	0.07%	7,800	8,559	9,393	10,307	11,311	12,412	13,620	14,947	16,402	17,999
Promotional expense	1%	112,389	134,200	157,470	184,053	214,377	248,926	274,019	301,420	331,562	364,719
Depreciation expense	1%	143,975	143,975	143,975	143,975	143,975	143,975	143,975	143,975	143,975	143,975
Amortization of pre-operating costs	0.11%	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Miscellaneous expense 1											
Subtotal		2,465,959	2,710,489	2,978,164	3,273,836	3,600,427	3,961,166	4,338,285	4,752,455	5,207,646	5,707,923
Operating Income		248,594	572,909	913,949	1,315,901	1,787,537	2,338,774	2,598,037	2,878,605	3,187,733	3,528,326
Earnings Before Interest & Taxes		248,594	572,909	913,949	1,315,901	1,787,537	2,338,774	2,598,037	2,878,605	3,187,733	3,528,326
Interest expense on long term debt (Project Loan)		152,495	139,611	122,676	104,337	84,475	62,964	39,668	14,439	-	-
Interest expense on long term debt (Working Capital Loan)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal		152,495	139,611	122,676	104,337	84,475	62,964	39,668	14,439	-	-
Earnings Before Tax		96,099	433,299	791,272	1,211,564	1,703,063	2,275,809	2,558,368	2,864,166	3,187,733	3,528,326
Tax		-	3,330	41,191	104,235	188,112	302,662	362,092	438,541	519,433	604,581
NET PROFIT/(LOSS) AFTER TAX		**96,099**	**429,969**	**750,082**	**1,107,330**	**1,514,950**	**1,973,148**	**2,196,277**	**2,425,625**	**2,668,300**	**2,923,744**

نوٹ: سمیڈا کی جانب سے پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون سے متعلقہ تمام سہولیات اور معلومات مفت فراہم کی جا رہی ہیں

12.2۔گردش نقد کا گوشوارہ(Cash Flow)

Cash Flow Statement

	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10
Operating activities											
Net profit		96,099	429,969	750,082	1,107,330	1,514,950	1,973,148	2,196,277	2,425,625	2,668,300	2,923,744
Add: depreciation expense		143,975	143,975	143,975	143,975	143,975	143,975	143,975	143,975	143,975	143,975
amortization of pre-operating costs		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Deferred income tax		-	3,330	41,191	104,235	188,112	302,662	362,092	438,541	519,433	604,581
Finished goods inventory		(120,061)	(20,855)	(23,878)	(27,245)	(31,046)	(35,335)	(25,824)	(28,409)	(31,248)	(34,372)
Equipment inventory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raw material inventory	(106,692)	(33,445)	(40,744)	(51,676)	(65,403)	(82,617)	(80,258)	(96,775)	(117,098)	(141,689)	816,396
Pre-paid building rent	(225,000)	(22,500)	(24,750)	(27,225)	(29,948)	(32,942)	(36,236)	(39,860)	(43,846)	(48,231)	530,538
Accounts payable		321,451	62,939	67,488	77,356	88,574	100,343	74,461	81,782	90,489	59,583
Cash provided by operations	(331,692)	397,519	565,864	911,957	1,322,300	1,801,007	2,380,298	2,626,345	2,912,570	3,213,030	5,056,446
Financing activities											
Project Loan - principal repayment		-	(204,028)	(220,962)	(239,302)	(259,164)	(280,674)	(303,970)	(329,199)	-	-
Additions to Project Loan	1,837,298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Issuance of shares	204,144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash provided by / (used for) financing activities	2,041,442	-	(204,028)	(220,962)	(239,302)	(259,164)	(280,674)	(303,970)	(329,199)	-	-
Investing activities											
Capital expenditure	(1,559,750)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisitions											
Cash (used for) / provided by investing activities	(1,559,750)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NET CASH	**150,000**	**397,519**	**361,836**	**690,995**	**1,082,998**	**1,541,843**	**2,099,624**	**2,322,376**	**2,583,370**	**3,213,030**	**5,056,446**

نوٹ: سمیڈا کی جانب سے پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون سے متعلقہ تمام سہولیات اور معلومات مفت فراہم کی جارہی ہیں

12.3۔اثاثوں اور واجبات کا گوشوارہ (Balance Sheet)

Balance Sheet

	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10
Assets											
Current assets											
Cash & Bank	150,000	547,519	909,355	1,600,350	2,683,348	4,225,191	6,324,815	8,647,191	11,230,561	14,443,591	19,500,037
Finished goods inventory		120,061	140,916	164,795	192,039	223,085	258,420	284,244	312,653	343,901	378,273
Raw material inventory	106,692	140,137	180,881	232,557	297,960	380,576	460,834	557,610	674,708	816,396	-
Pre-paid building rent	225,000	247,500	272,250	299,475	329,423	362,365	398,601	438,461	482,307	530,538	-
Total Current Assets	481,692	1,055,217	1,503,402	2,297,176	3,502,770	5,191,218	7,442,671	9,927,505	12,700,229	16,134,426	19,878,310
Fixed assets											
Machinery & equipment	1,124,750	1,012,275	899,800	787,325	674,850	562,375	449,900	337,425	224,950	112,475	-
Furniture, fixtures and Office Equipment	270,000	243,000	216,000	189,000	162,000	135,000	108,000	81,000	54,000	27,000	-
Office vehicles	45,000	40,500	36,000	31,500	27,000	22,500	18,000	13,500	9,000	4,500	-
Total Fixed Assets	1,439,750	1,295,775	1,151,800	1,007,825	863,850	719,875	575,900	431,925	287,950	143,975	-
Intangible assets											
Pre-operation costs	120,000	108,000	96,000	84,000	72,000	60,000	48,000	36,000	24,000	12,000	-
Total Intangible Assets	120,000	108,000	96,000	84,000	72,000	60,000	48,000	36,000	24,000	12,000	-
TOTAL ASSETS	**2,041,442**	**2,458,992**	**2,751,202**	**3,389,001**	**4,438,620**	**5,971,093**	**8,066,571**	**10,395,430**	**13,012,179**	**16,290,401**	**19,878,310**
Liabilities & Shareholders' Equity											
Current liabilities											
Accounts payable		321,451	384,390	451,879	529,235	617,809	718,151	792,612	874,394	964,884	1,024,466
Total Current Liabilities	-	321,451	384,390	451,879	529,235	617,809	718,151	792,612	874,394	964,884	1,024,466
Other liabilities											
Deferred tax		-	3,330	44,521	148,755	336,867	639,529	1,001,621	1,440,162	1,959,595	2,564,176
Long term debt (Project Loan)	1,837,298	1,837,298	1,633,270	1,412,308	1,173,007	913,843	633,169	329,199	-	-	-
Total Long Term Liabilities	1,837,298	1,837,298	1,636,600	1,456,829	1,321,762	1,250,710	1,272,698	1,330,820	1,440,162	1,959,595	2,564,176
Shareholders' equity											
Paid-up capital	204,144	204,144	204,144	204,144	204,144	204,144	204,144	204,144	204,144	204,144	204,144
Retained earnings		96,099	526,068	1,276,149	2,383,479	3,898,430	5,871,577	8,067,854	10,493,478	13,161,778	16,085,523
Total Equity	204,144	300,243	730,212	1,480,294	2,587,624	4,102,574	6,075,721	8,271,998	10,697,623	13,365,923	16,289,667
TOTAL CAPITAL AND LIABILITIES	**2,041,442**	**2,458,992**	**2,751,202**	**3,389,001**	**4,438,620**	**5,971,093**	**8,066,571**	**10,395,430**	**13,012,179**	**16,290,401**	**19,878,310**

نوٹ: سمیڈا کی جانب سے پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون سے متعلقہ تمام سہولیات اور معلومات مفت فراہم کی جارہی ہیں

12.4۔سودمند انتظامی تجاویز(Useful Project Management Tips)

ٹیکنالوجی:

مطلوبہ سپیئر پارٹس اور استعمال کی اشیاء:

آپریشن کے آغاز سے پہلے ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرنی چاہیے کہ سپلائر کے ساتھ ادھار پر سامان لینے کیلئے درکار تحریری معاہدہ جات جس میں بعد از فروخت سروس کی سہولیات شامل ہو ضرور کریں۔

توانائی کی ضرورت:

توانائی کو ضرورت کے مطابق حاصل کرے اور مسلسل فراہمی کیلئے متبادل ذائع کا انتظام کر کے رکھیں۔

مشینری کی فراہمی:

مشینری سپلائی کرنے والوں سے ضروری تربیت اور بعد از فروخت سروس کی سہولت ضرور حاصل کریں۔

کوالٹی کی یقین دہانی، ساز و سامان اور معیار:

کوالٹی کے معیار کو مصنوعات کی پیکنگ پر درج کریں اور معیار کو یقینی بنانے کیلئے با قاعدگی سے معائنہ کرنے کا نظام وضع کریں۔اس سے کاروبار کی ساکھ میں اضافہ ہوتا ہے۔

مارکیٹنگ:

اشیاء کی پیداوار اور پیکنگ:

پراڈکٹ کی پیداوار اور پیکنگ میں ماہرین کی خدمات لی جاسکتی ہیں۔

اشتہارات اور پوائینٹ آف سیلز پرموشن:

بینرز اور افتتاحی تقریبات کے ذریعے کاروبار کی تشہیر سے اسکا دائرہ کار وسیع کیا جاسکتا ہے۔مصنوعات سے متعلق معلوماتی بروشر کو کسی اچھے خدمات مہیا کرنے والے سے تیار کروائیں۔

قیمت اور بڑی تعداد میں رعائیتیں :

قیمت میں کمی کی وجہ سے اشیاء کے معیار پر سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے۔متعارفی مرحلے میں اشیاء کی کم قیمت فروخت میں اضافہ کر سکتی ہے۔ قیمت کا تعین کرنے سے پہلے اشیاء کی تیاری پر آنے والی لاگت کا اندازہ لگالینا چاہیے۔حکومت کی مقرر کردہ قیمتیں جنہیں مصنوعات پر درج کرنا لازمی ہوتا ہے کو بھی مدنظر رکھیں۔

افرادی قوت

مطابقت اور صلاحیت:

باصلاحیت اور تجربہ کار ماسٹر شیف کو کاروبار میں سرمایہ کاری سمجھیں۔ جتنا اچھا شیف ہوگا اتنے ہی کاروبار بڑھنے کے مواقع ہیں

12.5۔کارآمد روابط (Useful Links)

Prime Minister’s Office, www.pmo.gov.pk

Small and Medium Enterprise Development Authority, www.smeda.org.pk

National Bank of Pakistan (NBP), www.nbp.com.pk

First Women Bank Limited (FWBL), www.fwbl.com.pk

State Bank of Pakistan (SBP), www.sbp.org.pk

Government of Pakistan, www.pakistan.gov.pk

Ministry of Industries & Production, www.moip.gov.pk

Ministry of Education, Training & Standards in Higher Education, http://moptt.gov.pk

Government of Punjab, www.punjab.gov.pk

Government of Sindh, www.sindh.gov.pk

Government of Khyber Pakhtunkhwa, www.khyberpakhtunkhwa.gov.pk

Government of Balochistan, www.balochistan.gov.pk

Government of Gilgit Baltistan, www.gilgitbaltistan.gov.pk

Government of Azad Jamu Kashmir, www.ajk.gov.pk

Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), www.secp.gov.pk

13۔کلیدی مفروضے (Key Assumptions)

13.1۔خام مال کے مفروضے (Raw Material Assumptions)

1 پاؤنڈ کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد گراموں میں	اجزیات (تعداد)	اجزیات (فیصد)	لاگت	قیمت	تعداد	پیمائش کا یونٹ	خام مال
									سادہ اور ڈرائی کیک
									سادہ کیک
102.058	225	225	303	21.73 فیصد	125,959	450	280	کلوگرام	مکھن
18.144	40	40	333	3.86 فیصد	2,986	60	50	کلوگرام	چینی
136.078	300	300	393	28.97 فیصد	18,661	50	373	کلوگرام	میدہ
4.536	10	10	12	0.97 فیصد	746	60	12	کلوگرام	بیکنگ پاؤڈر
163.293	360	9	7,261	34.77 فیصد	81,157	7	11,594	عدد	انڈے
0.227	1	0.5	1	0.050 فیصد	311	500	1	لیٹر	فلیور
45.359	100	100		9.66 فیصد	49,762	400	124	کلوگرام	کریم اور مکھن
	1036		8,302	100 فیصد	279,582				

سادہ فروٹ کیک

خام مال	پیمائش کا یونٹ	تعداد	قیمت	لاگت	اجزیات (فیصد)	اجزیات (تعداد)	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد گراموں میں	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)	1 پاؤنڈ کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)
مکھن	کلوگرام	316	450	142,012	24.498فیصد	162	250	250	
چینی	کلوگرام	50	60	3,030	3.920فیصد	178	40	40	
میدہ	کلوگرام	316	50	15,779	24.498فیصد	211	250	250	
بیکنگ پاؤڈر	کلوگرام	13	60	757	0.980فیصد	6	10	10	
فروٹ چنکس	کلوگرام	379	60	22,722	29.397فیصد	66	300	300	
سوجی	کلوگرام	63	80	5,049	4.900فیصد	66	50	50	
انڈے	عدد	3,865	60	27,052	11.759فیصد	3,888	3	120	
فلیور	لیٹر	1	500	316	0.049فیصد	0.32	0.5	0.5	
				216,716	100فیصد	4,578		1020.5	

ڈرائی کیک

خام مال	پیمائش کا یونٹ	تعداد	قیمت	لاگت	اجزیات (فیصد)	اجزیات (تعداد)	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد گراموں میں	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)	1 پاؤنڈ کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)
مکھن	کلوگرام	357	450	160,629	22.167فیصد	545	225	225	
چینی	کلوگرام	63	60	3,807	3.941فیصد	545	40	40	
میدہ	کلوگرام	436	50	21,814	27.094فیصد	545	275	275	
بیکنگ پاؤڈر	کلوگرام	16	60	952	0.985فیصد	22	10	10	
انڈے	عدد	14,492	7	101,446	35.468فیصد	16,364	9	360	
فلیور	لیٹر	8	500	3,966	0.493فیصد	1.09	5	5	
کریم اور مکھن	کلوگرام	159	400	63,458	9.852فیصد		100	100	
				356,072	100فیصد	18,023		1015	

سویٹس اور نمکو

نمکو

خام مال	پیمائش کا یونٹ	تعداد	قیمت	لاگت	اجزیات (فیصد)	اجزیات (تعداد)	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد گراموں میں	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)	1 پاؤنڈ کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)
بیسن	کلوگرام	485	90	43,639	68.293فیصد	491	700	700	
ڈرائی فروٹ	کلوگرام	139	160	22,166	19.512فیصد	123	200	200	
چنے	کلوگرام	69	120	8,312	9.756فیصد	61	100	100	
نمکو مصالہ	کلوگرام	17	150	2,598	2.439فیصد	25	255	25 25	

سویٹس

خام مال	پیمائش کا یونٹ	تعداد	قیمت	لاگت	اجزیات (فیصد)	اجزیات (تعداد)	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد گراموں میں	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)	1 پاؤنڈ کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)
کھویہ	کلوگرام	1,801	400	720,290	33.816 فیصد	1,050	350	350	
میدہ	کلوگرام	1,158	50	57,880	21.739 فیصد	263	222	225	
انڈے	عدد	21,300	7	149,100	15.459 فیصد	131	4	160	
گھی	کلوگرام	772	175	135,054	14.493 فیصد	53	150	150	
چینی کا شیرہ یا چینی	کلوگرام	772	800	617,391	14.493 فیصد	919	150	150	
				1,679,716	100 فیصد	2,415		1035	

چکن بریڈ

خام مال	پیمائش کا یونٹ	تعداد	قیمت	لاگت	اجزیات (فیصد)	اجزیات (تعداد)	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد گراموں میں	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)	1 پاؤنڈ کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)
میدہ	کلوگرام	416.02	50	20,801	14.648 فیصد	336	150	150	
تیل	لیٹر	55.47	190	10,539	1.953 فیصد	33.60	20	20	
خمیر	کلوگرام	5.55	180	998	0.195 فیصد	1.68	2	2	
چینی	کلوگرام	69.34	60	4,160	2.441 فیصد	33.60	25	25	
نمک	کلوگرام	5.55	8	44	0.195 فیصد	3.60	2	2	
چکن	کلوگرام	970.70	275	266,943	34.180 فیصد	480	350	350	
پیاز	کلوگرام	346.68	40	13,867	12.207 فیصد	720	125	125	
مصالہ	کلوگرام	138.67	84	11,648	4.883 فیصد	84	50	50	
پنیر	کلوگرام	277.34	800	221,875	9.766 فیصد	180	100	100	
مائونیز اور کیچپ	کلوگرام	138.67	90	12,480	4.883 فیصد	120	50	50	
ملی جلی سبزیاں	کلوگرام	416.02	80	33,281	14.648 فیصد	120	150	150	
		2,840		596,639	100 فیصد	2,112	1024	1024	

فریش کریم کیک

خام مال	پیمائش کا یونٹ	تعداد	قیمت	لاگت	اجزیات (فیصد)	اجزیات (تعداد)	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد گراموں میں	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)	1 پاؤنڈ کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)
مکھن	کلوگرام	491	450	221,135	12.207 فیصد	545	80	125	
چینی	کلوگرام	393	60	23,588	9.766 فیصد	545	100	100	

نوٹ: سمیڈا کی جانب سے پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون سے متعلقہ تمام سہولیات اور معلومات مفت فراہم کی جا رہی ہیں

میدہ	کلوگرام	491	50	24,571	12.207فیصد	545	100	125	
بیکنگ پاؤڈر	کلوگرام	8	60	472	0.195فیصد	22	2	2	
انڈے	عدد	16,103	7	112,718	15.625فیصد	16,364	4	160	
فلیور	لیٹر	8	500	3,931	0.195فیصد	1.09	2	2	
فریش کریم	کلوگرام	2,005	300	601,486	49.805فیصد		510	510	
				987,899	100فیصد	18,023		1024	
اس قسم کے کیک کے لئے 20 فیصد اضافی لاگت تصور کی ہے				1,185,479					

پیسٹری اور پف وغیرہ

خام مال	پیمائش کا یونٹ	تعداد	قیمت	لاگت	اجزیات (فیصد)	اجزیات (تعداد)	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد گراموں میں	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)	1 پاؤنڈ کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)
مکھن	کلوگرام	315	450	141,526	12.207فیصد	545	100	125	
چینی	کلوگرام	252	60	15,096	9.766فیصد	545	100	100	
میدہ	کلوگرام	315	50	15,725	12.207فیصد	545	100	125	
بیکنگ پاؤڈر	کلوگرام	5	60	302	0.195فیصد	22	2	2	
انڈے	عدد	10,306	7	72,139	15.625فیصد	16,364	4	160	
فلیورز	لیٹر	5	500	2,516	0.195فیصد	1.09	2	2	
فریش	کلوگرام	1,283	300	384,951	49.805فیصد		510	510	
				632,256	100فیصد	18,023		1024	
بریڈ					100فیصد	407		1030	

بسکٹ وغیرہ

خام مال	پیمائش کا یونٹ	تعداد	قیمت	لاگت	اجزیات (فیصد)	اجزیات (تعداد)	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد گراموں میں	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)	1 پاؤنڈ کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)
مکھن	کلوگرام	873	450	392,828	16.393فیصد	303	170	170	
چینی	کلوگرام	770	60	46,215	14.465فیصد	333	150	150	
میدہ	کلوگرام	1,797	50	89,863	33.751فیصد	393	350	350	
بیکنگ پاؤڈر	کلوگرام	26	60	1,541	0.482فیصد	12	5	5	
انڈے	عدد	47,925	7	335,475	34.716فیصد	7,261	9	360	
فلیور	لیٹر	10	500	5,135	0.193فیصد	1	2	2	
				871,056	100فیصد	8,302		1037	

سنیکس

	فی کس	
چکن ڈرم سٹک لیگ پیس		
	45.5	161,525
چکن لیگ پیس		
	63	268,380
چکن شامی		
	21	111,825
چکن سینڈوچ		
	35	62,125
چکن پیٹس		
	17.5	155,313
چکن بریڈ رول		
	21	74,550

چکن پیزا

خام مال	پیمائش کا یونٹ	تعداد	قیمت	لاگت	اجزیات (فیصد)	اجزیات (تعداد)	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد گراموں میں	1 کلوگرام کیلئے اجزاء کی تعداد (گرام)	
میدہ	کلوگرام	930.58	50	46,529	19.417فیصد	336	200	200	
تیل	لیٹر	69.79	190	13,261	1.456فیصد	33.60	15	15	
خمیر	کلوگرام	4.65	180	838	0.097فیصد	1.68	1	1	
چینی	کلوگرام	93.06	60	5,583	1.942فیصد	33.60	20	2	
نمک	کلوگرام	18.61	15	279	0.388فیصد	3.60	4	4	
چکن	کلوگرام	1,395.87	275	383,865	29.126فیصد	480	300	300	
پیاز	کلوگرام	930.58	40	37,223	19.417فیصد	720	200	200	
مصالہ	کلوگرام	186.12	84	15,634	3.883فیصد	84	40	40	
پنیر	کلوگرام	465.29	800	372,233	9.709فیصد	180	100	100	
مائیونیز اور کیچپ	کلوگرام	232.65	90	20,938	4.854فیصد	120	50	50	
ملی جلی سبزیاں	کلوگرام	465.29	80	37,223	9.709فیصد	120	100	100	
		4,793		933,607	100فیصد	2,112		1030	

13.2۔فروخت کے مفروضے(Sales Assumptions)

مندرجات	یونٹ	یومیہ فروخت (تعداد)	سالانہ فروخت (تعداد)	قیمت فروخت/یونٹ (روپے)	سالانہ قیمت فروخت (روپے)
فریش کریم کیک					
فریش کریم	پاؤنڈ	10	3,550	180	639,000
تازہ پھل	پاؤنڈ	5	1,775	180	319,500
چوکلیٹ کیک	پاؤنڈ	5	1,775	180	319,500
بٹر کریم کیک	پاؤنڈ	5	1,775	180	319,500
کل			8,875		1,597,500
فریش اور چاکلیٹ پیسٹری	پاؤنڈ	5	1,775	180	319,500
ڈونٹس	پاؤنڈ	5	1,775	180	319,500
کریم پف	پاؤنڈ	3	1,065	180	191,700
کریم رول	پاؤنڈ	3	1,065	180	191,700
کل			5,680		1,022,400
بریڈ(Out Sourced)					
بریڈ، بن، رس وغیرہ	کلوگرام	10	3,550	110	390,500
کل					390,500
ڈرائی کیک					
ڈرائی کیک	پاؤنڈ	10	3,550	180	639,000
فروٹ کیک بڑا	پاؤنڈ	3	1,065	140	149,100
فروٹ کیک چھوٹا	پاؤنڈ	5	1,775	140	248,500
سادہ کیک بڑا	پاؤنڈ	3	1,065	120	127,800
سادہ کیک چھوٹا	پاؤنڈ	5	1,775	120	213,000
کل			9,230		1,377,400
سنیکس					
چکن پیزا بڑا	عدد	5	1,775	380	674,500
چکن پیزا درمیانہ	عدد	10	3,550	200	710,000
چکن پیزا چھوٹا	عدد	14	4,970	100	497,00
چکن بریڈ	عدد	8	2,840	380	1,079,200
چکن ڈرم سٹک لیگ پیس	عدد	10	3,550	65	230,750

نوٹ: سمیڈا کی جانب سے پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون سے متعلقہ تمام سہولیات اور معلومات مفت فراہم کی جارہی ہیں

چکن لیگ پیس	عدد	12	4,260	90	383,400
چکن شامی	عدد	15	5,325	30	159,750
چکن سینڈوچ	عدد	5	1,775	50	88,750
چکن پیٹس	عدد	25	8,875	25	221,875
چکن بریڈرول	عدد	10	3,550	30	106,500
کل			40,470		4,151,725

سویٹس اور نمکو

نمکو	کلوگرام	2	710	400	284,000
گلاب جامن	کلوگرام	3	1,065	375	399,375
چم چم	کلوگرام	3	1,065	375	399,375
کلاکند	کلوگرام	2	710	375	266,250
برفی	کلوگرام	3	1,065	375	399,375
موتی چور	کلوگرام	3	1,065	375	399,375
پتیسہ	کلوگرام	1	355	375	133,125
کل		15	5,325		2,228,875

بسکٹ

کیک رس	کلوگرام	2	710	320	227,200
سفید بسکٹ	کلوگرام	1	355	320	113,600
کوکونٹ بسکٹ	کلوگرام	1	355	320	113,600
میکرون کوکونٹ	کلوگرام	1	355	320	113,600
آلمنڈ میکرون	کلوگرام	1	355	320	113,600
چیز فنگر	کلوگرام	1	355	320	113,600
سالٹی زیرہ پلس	کلوگرام	1	355	320	113,600
سادہ کھٹائی	کلوگرام	1	355	320	113,600
باکرخانی	کلوگرام	1	355	320	113,600
فنگر	کلوگرام	1	355	320	113,600
جام ویفر	کلوگرام	1	355	320	113,600
سپیشل بسکٹ	کلوگرام	1	355	320	113,600
چاکلیٹ بسکٹ	کلوگرام	11	355	320	113,600
راؤنڈ آلمنڈ بسکٹ	کلوگرام	1	355	320	113,600
کل		15	5,325		1,704,000